

か 9課

ごみを だす

کچرا نکال کر رکھنا



もくひょう
目標
مقصد

1. ごみを 分けます
کچرا کو الگ کر کر رکھنا

2. わからないとき 人に ききます
سمجھ نہ اے تو کسی سے پوچھ لین

3. ごみを 出します
کچرا نکال کر رکھنا

0.

べんきょうの まえに پڑھائی سے پہلے

いつも どこに ごみを だしますか。
آپ عام طور پر اپنا کچرا کھاں پھینکتے ہیں۔



ごみを だします
gomi o dashimasu
کچرا نکال کر رکھنا

ごみばこ
gomi bako
کچرے کا ڈبّا



ごみぶくろ
gomi bukuro
کچرے کا تھیلا



ごみ gomi
کچرا



ごみおきば / ごみすてば
gomi okiba / gomi suteba
کچرا پھینکنے کی جگہ



1.

ごみを 分けます
わ
کچرا کو الگ کر کر رکھنا

どうして ごみを わけますか
کچرا کیون الگ کرتے ہیں



ごみを わけます
gomi o wakemasu
کچرا کو الگ کر کر رکھنا



しげんごみ
shigengomi
ری سائیکل پونڈ والا کچرا کرکٹ



リサイクルします
risaikuru shimasu
ری سائیکل کرنا



リサイクルします
risaikuru shimasu
ری سائیکل کرنا

わたしのまちの

リサイクル



あなたの町で資源ごみがどのようにリサイクルされているかわかります。
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے شہر میں قابل ری سائیکل کچرے کو کس طرح ری سائیکل کیا جاتا ہے۔

<https://www.jcpra.or.jp/mytown/tabid/1063/index.php>

(公財)日本容器包装リサイクル協会
The Japan Containers and Packaging Reclining Association

ただしいごみぶくろを つかいます
صحیح کچرے کے تھیلے کا استعمال کریں



ごみぶくろ
کچرے کا تھیلا



も
燃えるゴミ
moeru gomi

جلنے والا کچرا



も
燃えないゴミ
moenai gomi

نه جلنے والا کچرا



かん
缶・びん・ペットボトル
kan-bin-pettobotoru

کین بوتل پانی کی بوتل



プラスチック
purasuchikku


پلاسٹک

あなたのまちに なんしゅるい
何種類 ごみぶくろが ありますか。
آپ کے شہر میں کتنی قسم کے کچرے کے تھیلے ہیں۔

どのごみぶくろにいれますか
آپ کس کچرے کے تھیلے میں کچرا ڈالتے ہیں



① しょくひんトレー
shokuhin toree



② ペットボトル
pettobotoru



③ スプレーかん
supuree kan



④ たまごのパック
tamago pakku



⑤ CD



⑥ おむつ
omutsu



⑦ かん
kan



⑧ フライパン
furaipan



⑨ びん
bin



⑩ なまごみ
namagomi



⑪ かんでんち
kandenchi



⑫ ぎゅうにゅうパック
gyuunyuu pakku



スーパーで回収してくれるごみはどれですか。

سپر مارکیٹ میں کس قسم کا کچرا اکٹھا ہوتا ہے۔

トレイや容器はきれいに洗って出しましょう。

ٹرے اور کنٹینرز کو ٹھکانے لگانے سے پہلے اچھی طرح دھولیں۔



リサイクルマークを さがします
ری سائیکل کی نشانی تلاشنا

容器にリサイクルマークがついています。マークを見て、ごみを分けましょう。

ری سائیکل کی نشانات پروڈکٹ کی پیکیجنگ پر چسپاں ہیں۔
نشانی کے حساب سے کچرے کو الگ الگ کریں۔



ペットボトル
pettobotoru



かみ
kami



アルミ
arumi



スチール
suchiiru



プラスチック
purasuchikku



かみパック
kami pakku



A : プラスチックマーク が ありますか。

B : はい、あります。 / いいえ、ありません。

A : Prasuchikku maaku ga arimasuka.

B : Hai, arimasu. / Iie, arimasen.



2.

わからないとき ^{ひと}人に ききます
سمجھ نہ اے تو کسی سے پوچھ لیں

ごみのわけかたを ききます
کچرے کو الگ کرنے کا طریقہ پوچھنا

A : すみません、おむつは もえるごみですか。

B : はい、そうです。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, omutsu wa moeru gomi desuka.

B : Hai, soodesu.

A : Wakarimashita. Arigatoogozaimasu.



A : すみません、かんでんちは もえるごみですか。

B : いいえ、もえないごみです。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, kandenchi wa moeru gomi desuka.

B : Iie, moenai gomi desu.

A : Wakarimashita. Arigatoogozaimasu.

いつ ごみを だすか ききます
معلوم کرنا کے کچرا کب نکالنا ہے



まいしゅう
毎週 maishuu

ہر ہفتہ

ようび
曜日 yoobi

دن



あさ
朝 asa صبح

A : すみません、もえるごみ は いつ だしますか。

B : げつようび と もくようび です。
あさ 5じ から 8じ までに だします。

A : わかりました。ありがとうございます。

A : Sumimasen, moeru gomi wa itsu dashimasuka.

B : Getsuyoobi to Mokuyoobi desu.
Asa 5 ji kara 8 ji madeni dashimasu.

A : Wakarimashita. Arigatoogozaimasu.



だれが ごみおきばを そうじしますか。
کچرا پھینکنے کی جگہ کوکون صاف کرتا ہے۔

3.

ごみを 出します
کچرانکال کر رکھنا

ごみのルールが わかります
کچرے کے قوانین کو سمجھنا



あなたのまちの ごみの ルールを かいてください。

برہ کرم اپنے شہر کے کچرا کے اصول کو لکھیں۔

1. どこに ごみを だしますか。 Dokoni gomi o dashimasuka.	
2. いつ ごみを だしますか。 Itsu gomi o dashimasuka.	もえるごみ moeru gomi もえないごみ moenai gomi プラスチック prasuchikku かん・びん・ペットボトル kan-bin-pettobotoru
3. なんじに ごみを だしますか。 Nanji ni gomi o dashimasuka.	
4. どこで ごみぶくろを かいりますか。 Dokode gomibukuro o kaimasuka.	

あなたのくにと にほんと ごみのルールは おなじですか。ちがいますか。
کیا آپ کے ملک اور جاپان کے کچرے کے قوانین ایک جیسے ہیں۔ کیا یہ مختلف ہے۔

こんなとき どうしますか。
اس صورت میں کیا کریں گے۔

きょうは燃えないごみの日です。あなたはドライヤーを袋に入れないと出しました。近所の人がそれを見て注意しました。あなたは何と言いますか。

آج نہ جلنے والے کچرے کا دن ہے۔ آپ نے پیئر ڈرائیکو بیگ میں ڈالے بغیر ڈال دیا۔
ایک پڑوسی نے آپ کو دیکھا اور آپ کو توجہ دلای۔
آپ اس سے کیا کہیں گے۔



A : おはようございます。

B : おはようございます。あっ、ドライヤーを すてますか。

A : はい。

B : じゃ、もえないごみのふくろに いれなければなりませんよ。

A :

A : Ohayoogozaimasu.

B : Ohayoogozaimasu. A, doraiyaa o sutemasuka.


A : Hai.

B : Ja, moenaigomi no fukuro ni irenakereba narimasenyo.

A :

ごみについて ちゅういされたことが ありますか。
کیا آپ کو کبھی کسی نے کچرے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔

すてたいごみについて はなします
اس کچرے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ پھینکنا چاہتے ہیں



おおがたごみ / そだいごみ (بڑا کچرا)

大型ごみ受付センターに連絡します。お金がいります。ごみの大きさによって料金が違います。

بڑے کچرے کو لینے والے سینٹر پر رابطہ کریں۔
اسکے لئے پیسے ادا کرنے پڑنگ۔
کچرے کے سائز کے لحاظ سے قیمتیں مختلف ہوتی ہیں۔

かでん (گھریلو میں استعمال ہونے والے آلات)

家電リサイクル法があります。家電を買った店か、これから買う店に言います。お金がいります。

گھریلو آلات کی روی سائیکلنگ کا قانون ہے۔
آپ اس اسٹور میں جہاں سے آپ نے اسے خریدا تھا یا خریدیں گے اسکے متعلق پوچھ سکتے ہیں۔
اسکے لئے پیسے ادا کرنے پڑنگ۔

すべてたいけれど、すべてかたが わからないごみが ありますか。
کیا آپکے پاس ایسا کچرا ہے جو پھینکنا چاہتے ہیں پر پھینکنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔

しつもんの ことば سوالیہ جملے

ぎもんし Gimonshi سوالیہ جملے

いつ itsu	كب	<u>いつ</u> ごみを だしますか。 <u>Itsu</u> gomi o dashimasuka. كب کچرا پھینکتے ہیں۔
どこ doko	کہاں	<u>どこに</u> ごみを だしますか。 <u>Doko ni</u> gomi o dashimasuka. کچرا کہاں پھینکتے ہیں۔
だれ dare	کون	<u>だれが</u> ごみを だしますか。 <u>Dare ga</u> gomi o dashimasuka. کچرا کون پھینکتا ہے۔
なん nan	کیا	これは <u>なんですか</u> 。 Kore wa <u>nandesuka</u> . یہ کیا ہے۔
なに nani	کیا	<u>なに</u> を すてますか。 <u>Nani o</u> sutemasuka. کیا پھینکتے ہیں۔
どうして dooshite	کیوں	<u>どうして</u> ごみを わけますか。 <u>Dooshite</u> gomi o wakemasuka. کچرا کیوں الگ الگ کرتے ہیں۔

ようび دن

げつようび Getsu yoobi پیر	きんようび Kin yoobi جمعہ
かようび Ka yoobi منگل	どようび Do yoobi ہفتہ
すいようび Sui yoobi بدھ	にちようび Nichi yoobi اتوار
もくようび Moku yoobi جمعرات	なんようび Nan yoobi کون سا دن



水曜日

すいようび
بدھ

1・3 金曜日

1・3 きんようび
پہلا اور تیسرا جمعہ